

FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

| Sr | Questions | Answers Choice |
|----|---|---|
| 1 | سلائی اور کٹائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کے کتے حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے | A. دو B. چار C. تین D. آٹھ |
| 2 | سردی میں پہنے جاتے ہیں | A. سویٹر B. شلوار قیماض C. ریشمی قیماض D. سویٹر اور ریشمی قیماض |
| 3 | دھات والا فیتہ سرف کس کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے | A. مشین کو B. کپڑے کو C. جسم کو D. کاغذ کو |
| 4 | تلی جانے والی چیز کا تقریباً کتے فیصد کنار اڈوینا چاہیے | A. ادھا کنار ا B. تین چوتھائی C. دو تہائی D. ایک تہائی |
| 5 | حرارت کو کون سی مقدار پائی کے درجہ حرارت کو ایک سینٹی گریڈ تک بڑھادیتی ہے | A. ایک کلو گرام B. چار کلو گرام C. آٹھ کلو گرام D. دس کلوگرام |
| 6 | ساخت کے اعتبار سے کاربوہائیڈریٹس کس سے مل کر بنتے ہیں | A. سلفر اور گندھک B. فسفورس C. کاربن، آکسیجن، اور ہائیڈروجن D. نائٹروجن |
| 7 | دفتر کا کام کرنے کے لیے کتنی حرارے خرچ ہوتی ہے | A. 50 حرارے 20 سے B. 80 حرارے 60 سے C. 100 حرارے 80 سے D. 90 حرارے 50 سے |
| 8 | بماری غذا میں کتنے غذائی اجزا ہیں | A. تین B. چار C. چھ D. نو |
| 9 | خوراک کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز قدرتی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے | A. پانی B. موسم C. ماحول D. آب و ہوا |
| 10 | کھانا پیش کرنے کے طریقے ہیں | A. دو B. تین C. چار D. پانچ |
| 11 | نمکیات ہمارے جسم کے کتنے فیصد حصہ میں پانی کی مقدار نہ بڑھنے دیتے ہیں نہ کم ہونے دیتے ہیں | A. 2 فیصد B. 4 فیصد C. 6 فیصد D. 8 فیصد |
| 12 | کیلشیم اور فسفورس کے بعد کون سا نمک ہے جو ہمارے جسم میں سب سے زیادہ موجود ہوتا ہے | A. کیلشیم B. پوٹاشیم C. سوڈیم D. فولاد |
| 13 | بیشتر خواتین اپنے کپڑوں کی سلائی کے لیے کس کا سہارا لیتی ہیں | A. استانی کا B. والدین کا C. درزی کا D. شوہر کا |
| 14 | خربوڑہ پھل ہے | A. گرمیوں کا B. سردیوں کا C. بہار کا D. کوئی بھی نہیں |
| 15 | فہرست طعام کس کے مطابق ہونی چاہیے | A. وقت کے مطابق B. ہمت کے مطابق C. آمدنی کے مطابق D. بچت کے مطابق |

| | | |
|----|---|--|
| 16 | کپڑوں کی منصوبہ بندی کا مقصد ہے | A. کم از کم B. زیادہ سے زیادہ C. نہ کم نہ زیادہ D. کوئی نہیں. |
| 17 | بیماری تدرسی اور صحت کا دارومدار ہے | A. آب و ہوا پر B. پانی پر C. نشیستہ پر D. متوازن غذا پر. |
| 18 | قدرتی ریشے کتے ہوئے ہیں | A. دو B. تین C. چار D. آٹھ |
| 19 | حرارت اور توانائی پہنچانے والی غذا میں کون سی غذا شامل ہے | A. ٹماٹر B. شکر قندی C. پالک D. چاول ، گہیوں |
| 20 | کچھ لوگ کون سی مشقت سے زیادہ زہنی کام کرتے ہیں | A. نفسیاتی مشقت B. زہنی مشقت C. جسمانی مشقت D. کوئی نہیں. |